

آپ کو نیویارک اسٹیٹ میں مقامی پابندیوں کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے

COVID-19 کا نیو یارک سٹی (NYC) میں کچھ پڑوسوں میں کمیونٹی کی سطح پر پریشان کن اضافے کے ساتھ پھیلاؤ جاری ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ (NYS) [کلکٹر ایکشن اقدام](#) ان علاقوں میں پابندیوں کا تقاضا کرتا ہے جن کی اسٹیٹ نے زیادہ منتقلی والے زونز کے طور پر نشاندہی کی ہے۔ زون سرخ، نارنجی یا پیلے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہر رنگ پر مختلف پابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اپنا زون تلاش کرنے کے لیے، nyc.gov/covidzone ملاحظہ کریں۔ تازہ ترین احکامات کے لیے، براہ کرم اس ویب سائٹ کو باقاعدگی سے ملاحظہ کرتے رہیں۔ کلکٹر ایکشن اقدام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، [NYS کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔



سرخ زون

اسکول

NYC کے تمام سرکاری، غیر سرکاری اور چارٹر اسکولوں کو مکمل طور پر بند ہونا ہو گا اور ریموٹ تعلیم کی طرف لوٹنا ہو گا۔ اسکول دوبارہ کھل سکتے ہیں اگر وہ کچھ مخصوص تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ غیر سرکاری اسکولوں کے لیے [یہاں](#) اور سرکاری اسکولوں کے لیے [یہاں](#) دیکھیں۔



کاروبار

تمام غیر ضروری کاروباروں کو بند کرنا ضروری ہے۔ صرف نیویارک اسٹیٹ ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کارپوریشن کے نامزد کردہ [ضروری کاروبار](#) ہی کھلے رہ سکتے ہیں۔



فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس

ریستوران، بار، کیفے اور دیگر فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس صرف ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کی خدمت ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ اندرون خانہ یا بیرون خانہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

عبادت گاہیں

عبادت گاہیں زیادہ سے زیادہ 50% گنجائش کے ساتھ کھلی رہ سکتی ہیں۔

اجتماعات

کسی بھی سائز کے غیر ضروری اجتماعات پر پابندی ہے اور انہیں ملتوی یا منسوخ کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بڑے پیمانے پر اجتماعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں فروغ دینا ہے یا ان کا اہتمام کرتا ہے، اسے \$ 15,000 فی دن تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

نارنجی زون

اسکول

NYC کے تمام سرکاری، غیر سرکاری اور چارٹر اسکولوں کو مکمل طور پر بند ہونا ہو گا اور ریموٹ تعلیم کی طرف لوٹنا ہو گا۔ اسکول دوبارہ کھل سکتے ہیں اگر وہ کچھ مخصوص تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ غیر سرکاری اسکولوں کے لیے [یہاں](#) اور سرکاری اسکولوں کے لیے [یہاں](#) دیکھیں۔

کاروبار

جم، فٹنس سنٹرز، اور ذاتی نگہداشت کی خدمات (جیسے کہ حجام، ہیئر سیلون، اسپاز، ٹیٹو یا چھیدنے والے پارلر، ناخنوں کے ٹیکنیشن اور ناخنوں کے سیلون، کاسمیٹولوجسٹ، ایسٹھٹیشنز، لیزر سے بال ہٹانا اور الیکٹرولیزس کی خدمات) سمیت ایسے کاروباروں کو بند کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے COVID-19 کی منتقلی کا زیادہ خطرہ ہے۔

فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس

ریستوران، بار، کیفے اور دیگر فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس صرف بیرون خانہ کھانا کھانے اور ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کی خدمت ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ فی میز زیادہ سے زیادہ چار افراد کی حد متعین ہے۔ اندرون خانہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

عبادت گاہیں

عبادت گاہیں زیادہ سے زیادہ 50% گنجائش کے ساتھ کھلی رہ سکتی ہیں۔

اجتماعات

غیر ضروری اندرون خانہ اور بیرون خانہ اجتماعات کو 10 یا اس سے کم افراد تک محدود ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بڑے پیمانے پر اجتماعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں فروغ دیتا ہے یا ان کا اہتمام کرتا ہے، اسے \$ 15,000 فی دن تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

بیلا زون

اسکول

NYC کے غیر سرکاری اور چارٹر اسکول کھلے رہ سکتے ہیں اگر وہ NYS کے ٹیسٹنگ کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ NYC کے تمام سرکاری اسکول بند رہیں گے، لیکن کچھ مخصوص تقاضے پورے کرنے پر وہ کھل سکتے ہیں۔ غیر سرکاری اسکولوں کے لیے [یہاں](#) اور سرکاری اسکولوں کے لیے [یہاں](#) دیکھیں۔

کاروبار

تمام کاروبار کھلے رہ سکتے ہیں لیکن ان کو اپنے [شعبے](#) پر لاگو ہونے والے COVID-19 کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔



فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس

اندرون خانہ اور بیرون خانہ کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ فی میز زیادہ سے زیادہ چار افراد کی حد متعین ہے۔

عبادت گاہیں

عبادت گاہیں زیادہ سے زیادہ 50% گنجائش کے ساتھ کھلی رہ سکتی ہیں۔

اجتماعات

غیر ضروری اندرون خانہ اور بیرون خانہ اجتماعات کو 25 یا اس سے کم افراد تک محدود ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بڑے پیمانے پر اجتماعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں فروغ دیتا ہے یا ان کا اہتمام کرتا ہے، اسے \$ 15,000 فی دن تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

تمام زون

نیو یارک کے تمام باشندے COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے کچھ آسان اقدامات کر سکتے ہیں:

- گھر پر رہیں: اگر آپ تندرست محسوس نہیں کر رہے ہیں یا حال ہی میں آپ کا COVID-19 کا مثبت ٹیسٹ آیا ہے، کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں جس کو COVID-19 ہے، یا سفر کر رہے تھے، تو گھر پر ہی رہیں۔ آپ ضروری طبی نگہداشت اور دیگر ضروری کاموں کے لئے گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔
- جسمانی فاصلہ: چاہے آپ نے چہرے پر نقاب پہنا ہو تو بھی دوسروں سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ بڑے اجتماعات، خاص طور پر اندرون خانہ مجالس میں شرکت نہ کریں۔
- چہرے پر نقاب پہنیں: اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ آپ علامات کے بغیر بھی متعدی ہو سکتے ہیں اور اس وقت بیماری پھیلا سکتے ہیں جب آپ کھانستے، چھینکتے، بات کرتے یا سانس لیتے ہیں۔ چہرے کے نقاب جب صحیح طرح سے پہنے جائیں (آپ کی ناک اور منہ دونوں کو ڈھانپیں) تو یہ COVID-19 کے پھیلاؤ کو کم کرتے ہیں۔
- ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں: اپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی سے دھوئیں اور اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہوں تو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں؛ بار بار چھونے والی سطحوں کو باقاعدگی سے صاف کریں؛ ان دھلے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھونے سے پرہیز کریں، اور کھانسی اور چھینکوں کو اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنی بازو سے ڈھانپیں۔
- ٹیسٹ کروائیں: اپنے قریب ٹیسٹ کروانے کی سائٹ تلاش کرنے کے لیے nyc.gov/covidtest ملاحظہ کریں یا 212-268-4319 پر کال کریں۔ ٹیسٹنگ بہت ساری سائٹوں پر بغیر کسی خرچ کے فراہم کی جا رہی ہے، بشمول ہیلتھ + ہسپتالز اور NYC محکمہ صحت کے تحت چلنے والی تمام سائٹس۔

COVID-19 کے بارے میں عمومی معلومات کے لیے، nyc.gov/health/coronavirus ملاحظہ کریں۔ اسٹیٹ کے

COVID-19 رسپانس کے بارے میں اپ ڈیٹس کے لیے، coronavirus.health.ny.gov ملاحظہ کریں۔